

PRESS RELEASE

For immediate release

December 20, 2023

SECP warns public against illegal investment schemes of Prime Zone

ISLAMABAD, December 20: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has observed that M/s Prime Zone and its owner, Mr. Imran Butt, are involved in offering illegal deposit and investment schemes to the public by promising unrealistic monthly returns in the name of LPG trading.

The entity is operating social media pages with the title "Prime Zone Ltd." and giving a false impression of being a registered company. The public is hereby informed that no company with the name and style of 'Prime Zone Ltd' is registered with the SECP. Prime Zone is neither a registered entity nor is it allowed to accept deposits or investments from the public.

The public is hereby **WARNED NOT TO DEPOSIT/ INVEST FUNDS** with Prime Zone and its owner Mr. Imran Butt in whatsoever form and whatsoever arrangement. SECP has initiated legal proceedings against the involved persons.

ایس ای سی پی کا سرمایہ کاری کی غیر قانونی سکیموں کے خلاف عوام کو انتباہ

اسلام آباد (دسمبر 20) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے علم میں آیا ہے کہ میسرز پرائم زون اور اس کے مالک عمران بٹ عوام الناس کو زیادہ منافع کا لالچ دے کر عوام سے غیر قانونی طور پر ڈپازٹ اکٹھا کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری کی غیر قانونی اسکیمیں بتا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ پیش کرنے میں ملوث ہیں۔

ان لوگوں نے "Prime Zone Ltd" کے نام سے سوشل میڈیا کو نیٹ بنا رکھے ہیں اور ایک رجسٹرڈ کمپنی ہونے کا غلط تاثر دیتے ہیں۔ پرائم زون کے نام سے کام کرنے والے یہ افراد عوام سے ایل پی جی کی تجارت میں سرمایہ کاری کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں۔ عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ پرائم زون لمیٹڈ کے نام کی کوئی کمپنی ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس نام کے کسی ادارے کو عوام سے ڈپازٹ یا سرمایہ کاری اکٹھا کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔

عوام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ پرائم زون اور اس کے مالک عمران بٹ کے پاس کسی بھی شکل میں اور کسی بھی انتظام میں فنڈز جمع / سرمایہ کاری نہ کریں۔ ایس ای سی پی نے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔